



GENERAL

Form Of Proxy

I / We _____

of _____

being a member of E F U GENERAL INSURANCE LIMITED hereby appoint

Mr. _____

of _____

or failing him _____

of _____

as my / our proxy in my / our absence to attend and vote for me / us and on my / our behalf at the 88th Annual General Meeting of the Company to be held on Wednesday March 31, 2021 at 10:00 a.m. and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2021.

WITNESSES:


1. Signature: _____

Name: _____

Address: _____

CNIC Or

Passport No: _____



Signature of Member(s)

2. Signature: _____

Name: _____

Address: _____

CNIC Or

Passport No: _____

Shareholder's Folio No. _____

and / or CDC

Participant I.D.No. _____

and Sub Account No. _____

Important:

This form of Proxy, duly completed, must be deposited at the Company's Registered Office at Kamran Centre, 1st Floor, 85 East, Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad, not later than 48 hours before the time appointed for the meeting.

CDC Shareholders and their Proxies are each requested to attach attested photocopy of their Computerized National Identity Card (CNIC) or Passport with this proxy form before submission to the Company.

CDC Shareholders or their Proxies are requested to bring with them their Original Computerized National Identity Card or Passport along with the Participant's ID number and their account number at the time of attending the Annual General Meeting in order to facilitate their identification.



GENERAL


پراکسی فارم

میں/ہم _____
ساکن _____
بحیثیت ممبر ای ایف یو جنرل انشورنس لمیٹڈ بریج ہڈا مسی _____
ساکن _____
کو یا ان کی عدم دستیابی کی صورت میں مسی _____
ساکن _____

کو اپنی/ہماری جانب سے پراکسی مقرر کر دیا/رہی ہوں تاکہ وہ بدھ ۳۱ مارچ ۲۰۲۱ء بوقت ۱۰:۰۰ بجے صبح منعقد ہونے والے ۸۸ واں سالانہ اجلاس عام یا اس کے کسی بھی التواء میں میری/ہماری جگہ شرکت کرے اور ووٹ ڈالے۔

دستخط بروز _____ بتاریخ _____ ۲۰۲۱ء

گواہان:



ریونیو اسٹیپ

ممبر (میران) کے دستخط

۱- دستخط: _____
نام: _____
پتہ: _____
سی این آئی سی یا پاسپورٹ نمبر _____

۲- دستخط: _____
نام: _____
پتہ: _____
اور ڈبلیو اکاؤنٹ نمبر _____
سی این آئی سی یا پاسپورٹ نمبر _____

اہم نوٹ:

پراکسی کا یہ فارم جو ہر طرح سے مکمل ہو، لازماً کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع کامران سینٹر، پہلی منزل، ۸۵ ایسٹ، جناح ایونیو، بلیو ایریا، اسلام آباد میں اجلاس کے طے شدہ وقت سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل جمع کر دیا جائے۔

سی ڈی سی شیئر ہولڈرز اور ان کے پراکسیز سے درخواست ہے کہ ہر ایک اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقل کمپنی کو پراکسی فارم جمع کرانے سے قبل اس کے ساتھ منسلک کرے۔

سی ڈی سی شیئر ہولڈرز یا ان کے پراکسیز سے درخواست ہے کہ اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ بشمول پارٹنیشن کا آئی ڈی نمبر اور ان کے اکاؤنٹ نمبر اپنی شناخت میں سہولت کی غرض سے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے وقت ہمراہ لائیں۔